

مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی، حیدرآباد

MAULANA AZAD NATIONAL URDU UNIVERSITY, HYDERABAD

(Accredited "A+" Grade by NAAC)

Centre for Distance and Online Education

Programme: B.Com. 6th Semester

Paper: Management Accounting (BBCM613DST) انتظامی کھاتے

Assignment No. 2 (Unit 1 to 12) 2023 Batch

Max Marks:10

Last Date: See Notice

حصہ اول

(2.5 x 2

نوٹ۔ کوئی دو سوالوں کے جواب دیں۔

= 5)

1۔ انتظامی کھاتوں کی تعریف کرتے ہوئے اس کی اہمیت کو بیان کیجئے۔

2۔ فنڈ بہاؤ گوشوارہ میں شامل اہم عاملات کی وضاحت کیجئے؟

3۔ نسبتوں کی تعریف کرتے ہوئے کاروبار میں استعمال اہم نسبتوں کی وضاحت کیجئے؟

4۔ دیا گیا ہے کہ

تفصیلات	X	Y
Sale فروخت روپے	6,00,000	12,00,000
Variable Cost متغیر لاگت روپے	2,00,000	3,00,000
Fixed Cost مستقل لاگت	1,00,000	1,00,000

Margin of Safety (3

BEP (2

Profit Volume Ratio (1) تب ذیل کو محسوب کیجئے۔

حصہ دوم

(5 x 1 = 5)

نوٹ: کوئی ایک سوال کا جواب دیجئے۔

5۔ نقطہ توازن (Breakeven point) سے کیا مراد ہے اس کی اہمیت پر تفصیلی روشنی ڈالیے۔

6۔ نسبتوں کی تعریف کرتے ہوئے بیلنس شیٹ کی مدد سے تیار کئے جانے والے اہم نسبتوں کی وضاحت کیجئے۔

7۔ ذیل میں دئے گئے بیلنس شیٹ کی مدد سے فنڈ بہاؤ گوشوارہ محسوب کیجئے۔

Liabilities	2024	2025	Assets	2024	2025
Share Capital	2,00,000	4,00,000	Cash in hand	1,00,000	1,60,000
Equal Preference Share	2,00,000	4,00,000	Cash at Bank	80,000	1,70,000
Debentures	2,00,000	1,00,000	Stock	60,000	95,000
Profit and loss A/c	1,00,000	2,20,000	Debentures	1,00,000	1,50,000
General Reserve	90,000	1,60,000	Machinery	2,00,000	4,00,000
Creditors	50,000	1,00,000	Building	3,00,000	4,00,000
Bank Overdraft	1,00,000	75,000	Furniture	1,00,000	80,000
	9,40,000	14,55,000		9,40,000	14,55,000

مطابقتیں: (1) دوران سال 20,000 روپے کے فرنیچر جس پر 5000 روپے فرسودگی عائد کرنے کے بعد 5000 روپے میں فروخت کیا گیا۔

(2) دوران سال 1,00,000 روپے کی مشینری جس پر 50,000 روپے فرسودگی عائد کرنے کے بعد 10,000 روپے میں فروخت کیا گیا۔

(3) دوران سال حصص داروں کو 50,000 ڈیویڈنڈ ادا کئے گئے۔

Assignment No. 3 (Unit 13 to 24)

حصہ اول

(2.5 x 2

نوٹ۔ کوئی دو سوالوں کے جواب دیں۔

= 5)

- 1۔ یکم جنوری 2024 کو مشینری 2 لاکھ روپے، 31 دسمبر 2024 کو مشینری کی قدر 4 لاکھ 50 ہزار روپے، دوران سال 50 ہزار روپے کی مشینری پر 10 ہزار روپے فرسودگی عاید کرنے کے بعد 5 ہزار روپے میں فروخت کر دیا گیا۔ مشینری کا کھاتہ تیار کیجئے۔
- 2۔ محمد علی اینڈ برادرز نے درجہ ذیل معلومات دی ہیں۔ ان کی مدد سے کامن سائز انکم اسٹیٹمنٹ تیار کیجئے۔

	31.12.2022 (روپے)	31.12.2023 (روپے)
Sales فروخت	20,00,000	16,00,000
Cost of goods Sold فروخت شدہ مال کی لاگت	12,00,000	8,00,000
Selling and Distribution Expenses فروخت اور تقسیم کے اخراجات	4,00,000	2,80,000
Other Incomes دیگر آمدنیاں	80,000	40,000
Income Tax انکم ٹیکس	2,40,000	2,80,000

3۔ شان اینڈ کمپنی ایک شے کی تیاری کے دوران 40 روپے فی اکائی لاگت عاید ہوتی ہے۔ یہی شے بازار میں 30 روپے فی اکائی کے حساب سے دستیاب ہے اور اس بات کی ضمانت بھی ہے کہ سپلائی کا تسلسل نہیں ٹوٹے گا۔ اپنی رائے دیجئے کہ اس شے کو تیار کیا جائے یا خریدا جائے۔ آپ اپنی رائے پیش کیجئے کہ سپلائر شے کی قیمت 30 روپے سے گھٹا کر 27 روپے کرتا ہے۔ لاگت کی تفصیلات ذیل میں دی گئیں ہیں۔

تفصیلات	روپے
Raw Material مال	15
Direct Wages راست مزدوری	10
Other Variable Expenses دیگر متغیر اخراجات	5
Depreciation and Fixed Expenses فرسودگی اور دیگر قائم اخراجات	10
	40

4۔ بالائی مصارف (Overhead) سے کیا مراد ہے وضاحت کیجئے؟

حصہ دوم

(5 x 1 = 5)

نوٹ: کوئی ایک سوال کا جواب دیجئے۔

5۔ بجٹ کی تعریف کرتے ہوئے نقدی بجٹ اور اس کی اہمیت کو بیان کیجئے۔

6۔ ذیل میں ایک کام کی تکمیل کے لیے اہم تفصیلات دئے گئے ہیں۔

تفصیلات (Material)	معیاری Standard	حقیقی Actual
	قیمت روپے فی اکائی	مقدار کلو گرام قیمت روپے فی اکائی
	مقدار کلو گرام	جملہ رقم Total Amount

P	120	20	2400	160	24	3840
Q	180	40	7200	120	50	6000
	300		9600	280	74	9840

درجہ ذیل تحسب کیجئے۔

Material Usage Variance (iii) Material Price Variance (ii) Material Cost Variance (i)

7۔ جنوری تا اپریل 2025 کا نقدی بجٹ تیار کیجئے۔

مہینے	فروخت	خریدی ادھار	اجرتیں	پیداواری اخراجات	انتظامی اخراجات	فروختگی کے اخراجات
1 نومبر 01	50,000	15,000	4000	2000	3000	1000
2 دسمبر 01	80,000	30,000	4000	3000	3000	1000
3 جنوری 01	1,00,000	20,000	5000	5000	3000	1000
4 فروری	1,50,000	30,000	6000	6000	3000	1000
5 مارچ	2,00,000	40,000	7000	7000	3000	1000
6 اپریل	2,20,000	50,000	8000	9000	3000	1000

مزید تفصیلات:

1۔ ادھار فروخت پر وصولی کے لیے صارفین کو دو ماہ کی مدت درکار ہے۔ Lag Time for Receive from Debtors=2 Month

2۔ اپریل کے مہینے میں -/10,000 روپے ڈیوڈنڈا دیا جائے گا۔

3۔ ادھار خریدی پر ادائیگی کے لئے ایک ماہ کا وقت درکار ہے۔ Lag Time for payment to Creditor = One Month

4۔ اجرتوں کی ادائیگی کی مدت ایک ماہ ہے۔ Lag Time for payment wages = One Month

5۔ دیگر تمام اخراجات متعلقہ مہینے میں ادا کئے جائیں گے۔

6۔ یکم جنوری 2023 کو ہاتھ میں 50,000 روپے نقدی کامیزان ہے۔